



کوچ

قابلے خوشی

کو خوش آمدید! روح کے پھل سے بہادروں "آپ کا مقصد اپنے طالب علموں کو بہادر بننے میں مدد دینا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر روز کے عمل میں روح کا پھل ڈالیں۔ بہت سے اتوار اسکول کے پروگرام چرچ میں ہوتے ہیں اور اس میں ہفتے کے دوران گھر کے کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کے طالب علم یہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں گناہوں کو "ناک آؤٹ" نہیں کرسکتے۔ انہیں لازمی حقیقت میں "زنگ میں" آنا ہوگا اور اصل گناہ سے لڑنا ہوگا جس کا وہ ہفتے کے دوران مقابلہ کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی ان نظر نہ رکھے تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ مہربانی فرما کر "ان کے لفظوں پر بھروسہ نہ کریں" بلکہ جب طالب علم کہیں کہ انہوں نے اپنا اسائنمنٹ کر لیا ہے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ اس پروگرام سے لاپرواہ ہوجائیں گے تو اس کا مطلب ہو گا کہ آپ اپنے طالب علموں کو جھوٹ بولنا سیکھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تصور کریں کہ اگر آپ واقعی اپنے طالب علموں کے کوچ ہوسکتے ہیں اور راہ پر ہیں تو وہ اپنا گھر کا کام کرتے رہیں تو آپ ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی دیکھ لیں گے۔ صرف 1 سال میں، آپ ان کی زندگی بدل سکتے ہیں! آپ کے طالب علم روح کا پھل یاد نہیں کریں گے لیکن حقیقت میں انہوں نے اس میں رہنا سیکھنا ہوگا۔

آپ کی ذمہ داریاں:

- اپنے بچوں کے گروہ کے کوچ بنیں
- ہر ہفتے کلاس سے 5 منٹ پہلے اور بعد میں طالب علموں سے ملیں اسائنمنٹ پر بحث کریں اور بہادر بننے کے لئے ان کی حوصلہ افزائیں کریں۔
- ہفتے وار طالب علموں کو ان کی اسائنمنٹ کی یاد دہانی کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (منگل تجویز کیا گیا ہے)
- ہفتے میں دوسری بار طالب علم کو اپنی کئے ہوئے اسائنمنٹ کی رپورٹ لینے کے لئے فون کریں یا پیغام بھیجیں۔ (جمعہ تجویز کیا گیا ہے)
- چھوٹے گروہ میں بچوں نے جو اسائنمنٹ کی ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور اس کی ہفتہ وار رپورٹ بیڈ کوچ کو بھیجیں۔

انعامات:

کوچ ہونے کی حیثیت سے ایک بہت اہم بات کہ اپنے طالب علموں کو احساس دلانے میں مدد دیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ انہیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ ان کا رویہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں اس رویے پر انعام دیں۔

چھوٹے ہفتے وار انعامات:

- گلے لگانا
- اوپر ہاتھ کر کے ملانا (ہائی فائیو)
- ان کی قمیضوں پر اسٹیکر لگانا
- ہاتھ پر مہر لگانا
- تھوڑی مٹھائی

مہینے کے آخر میں بڑے انعامات:

- تقریب انعامات میں بچوں کو سونے، چاندی اور کانسی کے میڈل دئیے جائیں گے۔ (کانسی کا میڈل 3 ہفتوں کی اسائنمنٹ پورا کرنے والوں کو، چاندی کا 4 ہفتوں والوں کو اور سونے کا 5 ہفتوں والوں کو۔ یا دوسری صورت میں، آپ ہر ہفتے کانسی کا 2 پنچ کے لئے، چاندی کا 3 پنچ کے لئے اور سونے کا میڈل 4 پنچ کے لئے دے سکتے ہیں۔)
- اپنے گھر پر تقریب
- اسناد
- بڑے چرچ میں بالغوں کے سامنے کچھ بڑا دیں
- ٹرافیاں

ہمارا خداوند آپ کو متاثر کرے جیسے آپ نے روح کے پھل میں اپنے طالب علموں کو سیکھانے کا چیلنج قبول کیا ہے۔

مقابلہ 6



خوشی بمقابلہ حسد

مذہبی رہنما حاسد ہیں

قوانین 33-12:5

یاد کرنے والے آیت: گرتھیوں-۱ 3:3

کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لئے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟

رنگ میں

روحانی تحفوں، جسم، آپ کی اپنی چیزوں اور خاندان جو آپ کا ہے ان پر خدا کا شکر ادا کریں، خدا سے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر خوشی اور قناعت مانگیں۔ منتخب کریں کسی کو جس سے آپ ماضی میں حسد کرتے ہوں اور اسے ایک چھوٹا سا تحفہ دیں۔ (ان کو اپنی ماضی کے حسد کے بارے میں نہ بتائیں)

مقابلہ 7



خوشی بمقابلہ لالچ

امیر جوان شخص

میتھیو 19:16-30

یاد کرنے والے آیت : لوقا 15:12

O اور اُس نے اُن سے کہا خرددار! اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اُس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں O

رنگ میں

چرچ میں پیش کی جانے والی پلیٹ میں خدا کے لئے کچھ اپنی ذاتی رقم دیں یہ جانیں بغیر کہ یہ کہاں جائے گی۔ کچھ رقم کسی کی خدمت میں خرچ کریں، اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو جو آپ کے پاس ہے وہ دے دیں۔

مقابلہ 8



خوشی بمقابلہ خود بیچارگی

یونس اور کیڑا

یونس 1:4-10

یاد کرنے والے آیت : گرنٹھیوں-2 17:4-18

کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مُصیبت ہمارے لئے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔

رنگ میں

بے گھر لوگوں کی سرچھپانے کے لئے مدد کریں یا مذہبی اداروں کی جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یا اس کے بدلے، بیماروں کو دیکھنے ہسپتال جائیں، ان کے لئے دعا کریں اور خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کی نظر کو وسیع کر دے اور خود کو دیکھنے والی آنکھوں کو بند کرنے میں مدد کرے۔



خوشی بمقابلہ احسان فراموش

یسوع نے 10 کوڑھیوں کو شفا یاب کیا

لوقا 19-11:17

یاد کرنے والے آیت : زبُو 4:100

شکرگذاری کرتے ہوئے اُس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اُس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔
اُس کا شکر کرو اور اُس کے نام کو مبارک کہو۔

رن گ میں



اپنے والدین (یا دوسروں کا) شکریہ ادا کریں جو آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ کوئی چیز منتخب کریں اور کچھ دیر اس کے بغیر رہیں یہ یاد دہانی کے لئے کہ یہ چیزیں ہوسکتا ہے ہمیشہ آپ کے پاس نہ رہیں۔

طالب

1. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
انٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				

3. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
انٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				

5. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
کانٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				

2. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
انٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				

4. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
انٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				

6. _____

قابلے

9 8 7 6

وار کرنا				
کانٹا				
آر پار				
اوپر کی طرف کہنی کو موڑ کر پنچ مارنا				